



سوال

(248) امام نمبر پڑھیے تو مؤذن امام کے روبرو نمبر کے پاس کھڑے ہو کر اذان کہے یا امام سے دور رہ کر؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

خطبہ جمعہ کے لیے امام نمبر پڑھیے تو مؤذن امام کے روبرو نمبر کے پاس کھڑے ہو کر اذان کہے یا امام سے دور رہ کر؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اذان سے مقصود مسجد سے باہر کے لوگوں کو اطلاع دینا اور نماز و خطبہ میں شریک ہونے کے لیے بلانا ہے اور یہ مسجد مقصد کے مسقف حصہ کے اندر نمبر کے قریب یا متصل اذان دینے سے ہرگز نہیں حاصل ہو سکتا۔ یہ مقصد تو اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب خطبہ کی یہ اذان امام سے یا نمبر سے دور مسقف حصہ سے باہر کھلی جگہ پر دروازے پر، یا کسی اور جگہ پر دی جائے۔ مگر اس امر کا لحاظ رکھا جائے کہ مؤذن کو امام کی موجت بھی میسر ہو جائے۔ ”بین یدی، کا مطلب امام اور نمبر کی قریب اور متصل نہیں ہے۔ ورنہ ”علی باب المسجد، کا لفظ معنی ہو جائے گا۔ (دستخط) عبید اللہ رحمانی مبارکپوری 22 6 1386ھ (محدث بنارس اگست 1997ء)۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ شیخ الحدیث مبارکپوری

جلد نمبر 1

صفحہ نمبر 374

محدث فتویٰ